

# گھر پر کتاب پڑھنے کی روٹین نئے آنے والے طلباء Coates E. S. 2020

یہ مختصر کتابچہ آپ کو، یہ سمجھانے کے لیئے، تیار کیا گیا ہے کہ ایسے طلباء جو انگریزی زبان نہیں بول سکتے اور امریکہ پہلی بار (نئے آنے والے طلباء) آئے ہیں، ان کے لیئے کتاب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں گھر پر کتاب پڑھنے کی روٹین بنانے کی حکمت عملیوں سے متعلق، معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عام طور سے، انگریزی زبان میں مہارت حاصل کرنے میں، 4-7 سال لگ جاتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیئے، نئے آنے والے طلباء کو، روزانہ انگریزی سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے زبان کے استعمال سے، زبان سیکھتے ہیں۔


نئے طلباء روزانہ سادہ کتابیں پڑھ کر اور ان کے بارے میں بات کرنے کے ذریعے، انگریزی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اساتذہ اسکول میں، طلباء کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، مگر گھر پر اپنے بچے کے ساتھ، کتاب پڑھنے سے وہ انگریزی جلدی سیکھ سکتا/سکتی ہے!

## سادہ کتابیں پڑھیں:

ہر رات اپنے بچے سے، ایک سادہ کتاب پڑھتے ہوئے سنیں۔ کتاب میں موجود تصویریں دیکھیں اور اونچی آواز میں کتاب پڑھنا شروع کرنے سے پہلے، اپنے بچے سے، ہر صفحے پر اہم الفاظ کی طرف اشارہ کرنے اور بولنے کے لیئے کہیں۔ کتاب ختم کرنے کے بعد، اپنے بچے کے ساتھ اہم الفاظ سے متعلق، بات کریں۔

ذیل میں ایک سادہ متن کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔

دہرائی جانے والے پیٹرن/ مثالیں۔



تصویریں الفاظ  
سمجھنے میں مدد  
کرتی ہیں۔

ایسی کتاب تلاش کریں، جس کے ہر  
صفحے پر تھوڑے الفاظ ہوں یا  
پیٹرن/ مثالیں دہرائی گئی ہوں یا  
ABC کی کتابیں۔

طلباء پڑھتے ہوئے ہر لفظ کی طرف اشارہ کریں  
گے۔ وہ پڑھنے کے لیئے، اس سطح پر حروف کا  
استعمال نہیں کریں گے۔ وہ پیٹرن/ مثالیں اور  
تصویریں استعمال کریں گے۔

حروف کے ناموں اور آوازوں کی مشق: اگر آپ کے بچے کو ابھی تک، حروف کے  
بارے میں علم نہیں ہے تو آپ ہر حرف کا نام اور آواز نکال کر اس کے ساتھ، ان کی  
پریکٹس کر سکتے ہیں۔ طلباء آن لائن انگریزی میں کتاب سنتے ہوئے بھی حروف سیکھ  
سکتے ہیں۔ آن لائن کتابیں سننا طلباء کے لیئے، زبان سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔  
درج ذیل کچھ ویب سائٹس فراہم کی گئی ہیں۔

ویب سائٹس اور وسائل

[www.abcya.com](http://www.abcya.com) – alphabet: letters, sounds

[www.starfall.com](http://www.starfall.com)- alphabet: letters, sounds, early reading

[www.myon.com](http://www.myon.com) – read/listen to books

[www.coateses.fcps.edu/student-resources](http://www.coateses.fcps.edu/student-resources) – More web sites for reading and learning.

## کتاب سے متعلق، سوال کریں:

جیسے جیسے آپ کا بچہ مشکل متن کی طرف بڑھے، ان سے کہانی سے متعلق، سوال کریں۔ کردار کون کون سے ہیں؟ کہانی میں کیا ہوا؟ یہ کہاں ہوا؟ مسئلہ اور حل کیا تھا؟

## گھر پر کتاب پڑھنے کی روٹین بنانا:



- روزانہ کتاب پڑھنا ایک دلچسپ سرگرمی بنائیں! آپ کا بچہ رات کے کھانے سے پہلے یا بعد میں، سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ایسا وقت رکھیں جو آپ کے خاندان کے لیئے، مناسب ہو اور اس وقت یہ کام ضرور کریں۔
- روزانہ کسی خاموش جگہ پر 15 منٹ کتاب پڑھنے کے لیئے، مقرر کریں۔ (دیہان نہیں بٹنا چاہیئے)۔ آن لائن کتاب پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ درج بالا وسائل ملاحظہ کریں۔
- اپنے بچے کے ساتھ، اپنی مقامی زبان میں پڑھیں اور پھر اس سے متعلق، بات چیت کریں۔
- اپنے بچے سے انگریزی میں کتاب پڑھتے ہوئے سنیں (چاہے آپ انگریزی نہیں بھی بولتے)۔ اپنے بچے سے کہانی کے بارے میں، بات کریں۔
- جب آپ کا بچہ انگریزی حروف کی پریکٹس کرے تو اس پر نظر رکھیں۔ حروف کا نام لیتے ہوئے، اسے وہ حروف ٹریس کرنے چاہئیں اور آخر میں آواز۔ انگریزی کے الفاظ اور آوازوں کی پریکٹس کرنے کے لیئے، ویب سائٹس کے وسائل ملاحظہ کریں۔
- sight words (عام الفاظ) یاد کرنے میں مدد کریں (جو الفاظ آپ کو کتاب میں اکثر نظر آتے ہیں)
  - کتاب میں sight words (عام الفاظ) تلاش کریں
  - (عام الفاظ) لکھنے کی پریکٹس کریں
  - sight words (عام الفاظ) جلدی سے پڑھنے کی پریکٹس کریں

sight words (عام الفاظ) کی فہرست

[https://www.sightwords.com/pdfs/word\\_lists/dolch\\_group.pdf](https://www.sightwords.com/pdfs/word_lists/dolch_group.pdf)